

عزیزی والدین یا سرپرست:

تعلیمی سال 2018-2019 کے دوران آپ کے بچے نے بحالی ایکٹ (Rehabilitation Act) سیکشن 504 کے تحت اسکول میں صحت سے متعلقہ خدمات یا سہولیات موصول کی تھیں۔ نیویارک شہر محکمہ تعلیم ہر تعلیمی سال میں خدمات کے لیے ایک نئی منظوری کا مطالبہ کرتا ہے۔ نئی منظوری اسکی تصدیق کرتی ہے کہ آپکے بچے کو ابھی بھی اسکول میں خدمات درکار ہیں۔ یہ اسکول بھی یقینی بناتا ہے کہ آپکا بچہ موزوں خدمات حاصل کرے۔ تجدید کردہ ادویات کے انتظامی فارم (MAFs) اسکول نرس کو بتاتے ہیں کہ آیا آپکے صحتیاتی نگہداشت پیشہ ور نے آپکے بچے کی دوا یا علاج میں گزشتہ سال کوئی تبدیلیاں کی ہیں۔ اسکول نرس کو یہ معلومات آپکے بچے کا مناسب علاج کرنے کے لیے درکار ہیں۔

متعدد والدین اپنے بچوں کے لیے سال کے اس وقت سالانہ اور کیمپ میں جسمانی معائنہ شیڈیول کرتے ہیں۔ ہم آپکی آنے والے تعلیمی سال کے لیے تیاری کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ کے بچے کی اگلی ملاقات میں اپنے بچے کے صحتیاتی پیشہ ور سے متعلقہ، منسلکہ سہولیات کے فارمز مکمل کرنے کی گزارش کریں۔ طبی فارم کے بالائی بائیں کونے پر ایک چھوٹی اور جدید تصویر لگائیں۔ اس سے اسکول کو آپکے بچے کی درست شناخت کرنے میں مدد ملے گی

تمام ادویات کا انتظامی فارم (MAF) سوائے ذیابیطس کی ادویات کا انتظامی فارم (MAFs) کے لیے:

- اگر یہ اسکول کے آخری دن سے قبل ہے:
 - ادویات کا انتظامی فارم (MAFs) اپنے بچے کے اسکول نرس کے پاس جمع کرا دیں۔
 - تعلیمی سہولیات کی تجدید کی درخواست اسکول کے سیکشن 504 رابطہ کار کو دیں _____.
- گرمیوں کے دوران، فارمز کو ذیل پر بذریعہ ڈاک بھیجیں:

فارمز کو 31 مئی، 2019 تک مکمل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپکے بچے کو منظور کردہ خدمات نئے تعلیمی سال کے آغاز سے موصول ہوں۔

بخلوص،